



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank



October 5, 2021

CS/PSX-16/203/2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

PUBLICATION OF NOTICES FOR THE CREDIT OF INTERIM CASH DIVIDEND OF MEEZAN BANK LIMITED FOR THE HALF YEAR ENDED JUNE 30, 2021

Dear Sir,

السلام عليكم

This is further to our earlier letter No. CS/PSX-16/201/2021 dated October 1, 2021 concerning the credit of interim cash dividend of Rs. 1.50 per share i.e. 15% of Meezan Bank for the half year ended June 30, 2021.

In this connection, we would like to inform you that the notices for the credit of said dividend are published nationwide today i.e. **Tuesday, October 5, 2021** in two newspapers namely “The News” and “The Daily Express” in English and Urdu languages respectively. Copies of the same are enclosed for your reference and record.

Please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Encls: As above

Meezan Bank Ltd.

Head Office: Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi - Pakistan.
PABX: (92-21) 38103500 UAN: 111-331-331 & 111-331-332 www.meezanbank.com

Published nationwide in newspaper namely "The News"
Today i.e. Tuesday, October 5, 2021



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

**Credit of Interim Cash Dividend
for the half year ended
June 30, 2021**

We are pleased to inform our shareholders that the Interim Cash dividend of Rs.1.50 per share i.e. 15% for the half year ended June 30, 2021 as approved by the Board of Directors in its meeting held on August 12, 2021 has been credited in between September 29, 2021 to October 01, 2021 through electronic mode directly into the designated bank accounts of the shareholders who have provided their valid International Bank Account Numbers ("IBANs").

Further in compliance with the requirements of Section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, the Bank has withheld dividend of those shareholders who have not provided their valid IBANs or have provided incomplete or incorrect bank account details.

In order to receive the cash dividend withheld by the Bank as stated above shareholders are again requested to contact the following along with legible copy of their valid CNIC and provide complete bank accounts detail including valid IBANs on E-Dividend Mandate Form available at the following link.

<https://www.meezanbank.com/wp-content/themes/mlb/downloads/Dividend-Mandate-Form-Eng.pdf>

1. Bank's Share Registrar at the following address (If maintaining shareholding in physical form)

Share Registrar

THK Associates (Pvt.) Limited

Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A.
Phase VII, Karachi-75500, Pakistan.
Phone: (92-21) 111-000-322
Fax: (92-21) 35310191 Email: sfc@thk.com.pk

2. If shares are held in CDC electronic form, kindly contact your Broker/Participant/Investor Account Services of Central Depository Company of Pakistan (CDC).

Note:

1. Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) has developed Centralized Cash Dividend Register ("CCDR"), on e-Services web portal, which contains details pertaining to cash dividends paid, unpaid or withheld by listed companies. The CCDR helps to maintain history of dividends paid to shareholders by listed companies and access of all such information is provided to the respective shareholders including details of Income Tax/Zakat deduction et. (if any) and the net amount credited into their accounts.

The Shareholders are requested to register themselves to CDC's e-Services Portal <https://eservices.cdaccess.com.pk/public/index.xhtml> to get above information.

2. The Shareholders having physical shareholding are required to convert their physical shares into scrip-less form as per the Section 72 (2) of the Companies Act 2017 i.e. "Every existing company shall be required to replace its physical share with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four days from the commencement of the Act."

By Order of the Board

Karachi:

October 02, 2021

Muhammad Sohail Khan

Company Secretary ▲

www.meezanbank.com

24/7 Call Center (021) 111-331-331 & (021) 111-331-332

Published nationwide in newspaper namely "The Daily Express"
Today i.e. Tuesday, October 5, 2021



میزان بینک
پیریدیمینٹر اسلامی بینک

30 جون، 2021 کو ختم ہونے والی ششماہی کے لئے عبوری کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی

ہم اپنے حصص یافتگان کو یہ اطلاع دینے میں مسرت محسوس کرتے ہیں کہ 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والی ششماہی کے لئے 1.50 روپے فی حصص یعنی 15 فیصد عبوری کیش ڈیویڈنڈ، جس کی منظوری 12 اگست، 2021 کو منعقدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں دی گئی تھی، 29 ستمبر، 2021 سے یکم اکتوبر، 2021 کے درمیان کو ان حصص یافتگان کے مقررہ بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طریقے سے براہ راست کریڈٹ کر دیا گیا ہے جنہوں نے اپنے فعال انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبرز ("IBANS") فراہم کر دیے ہیں۔

مزید برآں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کے مطابق بینک نے ان حصص یافتگان کے ڈیویڈنڈز روک لئے ہیں جنہوں نے اپنے فعال IBAN فراہم نہیں کئے یا بینک اکاؤنٹ کی مکمل یا غلط تفصیلات فراہم کی ہیں۔

بینک کی جانب سے روکے گئے مذکورہ بالا ڈیویڈنڈز کے حصول کے لئے حصص یافتگان سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فعال CNIC کی نقل اور بینک اکاؤنٹ کی مکمل تفصیلات بشمول فعال IBANs کے ساتھ اس لنک پر موجود ای۔ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کے ساتھ درج ذیل سے رابطہ کریں۔

<https://www.meezanbank.com/wp-content/themes/mbl/downloads/Dividend-Mandate-Form-Urd.pdf>

1- بینک کے شیئر رجسٹرار سے مندرجہ ذیل پتہ پر رابطہ کے لئے (اگر آپ کی حصص یا قلمی طبعی شکل میں ہے)۔

شیئر رجسٹرار،

THK ایسوسی ایٹس،

پلاٹ نمبر C-32، جوائنٹ ٹرسٹ اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز، VII، کراچی-75500، پاکستان
فون: 322-000-111 (21-92) فیکس: 35310191 (21-92)

ای میل: sfc@thk.com.pk

2- اگر حصص CDC میں الیکٹرانک شکل میں رکھے گئے ہوں تو برائے مہربانی اپنے بروکر/پارٹنر/سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) کی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

نوٹ:

1- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) نے ای سروسز ویب پورٹل پر سینٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر ("CCDR") تیار کیا ہے، جس میں لسٹڈ کمپنیوں کی جانب سے ادا کردہ غیر ادا شدہ یا روکے گئے ڈیویڈنڈ کی تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔ CCDR لسٹڈ کمپنیز کی جانب سے حصص یافتگان کو ادا کردہ ڈیویڈنڈ کا ریکارڈ مرتب کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور متعلقہ حصص یافتگان کو ان تمام معلومات بشمول آئٹم ٹیکس/زکوٰۃ کوٹنی (اگر کوئی ہو) اور اصل خالص منافع (Net dividend) کی ادا شدہ رقم جو ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کی گئی ہو، وغیرہ کی معلومات تک رسائی دیتا ہے۔

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ مندرجہ بالا معلومات کے حصول کے لئے CDC کے ای سروسز پورٹل <https://eservices.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml> پر خود کو رجسٹر کروائیں۔

2- فزیکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز اسکرپ لیس فارم میں رکھیں جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72(2) کے تحت ”ہر موجودہ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو کمیشن کی جانب سے واضح کردہ بک انٹری فارم میں تبدیل کریں اور کمیشن کی جانب سے دی جانے والی تاریخ اور متعلقہ ایکٹ کے نفاذ سے چار سال کے اندر اندر تعمیل کریں۔“

محکمہ بورڈ

محمد سہیل خان
کمپنی سیکریٹری

▲ کراچی: 02 اکتوبر، 2021

24/7 کال سینٹر 111-331-331 اور 111-331-332 (021)

24/7 Call Center (021) 111-331-331 & (021) 111-331-332